



**PRESS RELEASE**

## **SECP revising NBF sector regulatory framework**

ISLAMABAD, September 9: Keeping in view the inherent risks in the present composition of financial sector, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) is the process of revising the NBF sector to reform the entire financial sector.

Mr. Imtiaz Haider, the SECP Commissioner for Specialized Companies Division, has said that the roadmap was rolled out in the form of a report in March 2013. In the said report, the SECP suggested to develop an alternative financial system by way of promoting non-bank financial (NBF) sector to diversify the inherent systemic risk and provide different asset classes to promote savings as well as meet the specific needs of participants. Other recommendations included some macro-level suggestions regarding taxation regime, encouraging long-term savings and channeling these savings to under-served segments.

Mr. Imtiaz Haider further said that a good number of market professionals, industry participants and financial institutions provided comments on the report. Moreover, some new ideas were also received. The SECP has analyzed the feedback given by the public on the suggested reforms.

Considering the suggested way forward given in the report and comments received from the public, the SECP has now started the process of revisiting prevalent regulatory regime for the NBF Sector.

The proposed way forward can be categorized into two parts. The first part requires longer time period for implementation as it requires consent of different stakeholders such as State Bank of Pakistan, Ministry of Finance and Federal Board of Revenue etc. as well as amendments to various statutes. Prior to considering the implementation of this part, the SECP will consider State Bank's feedback on the way forward suggested in the report.

The second part can be implemented in the shorter run as it requires changes to the existing regulatory framework without the involvement of any external stakeholder. The SECP has initiated the process and the requisite amended framework would be implemented during this calendar year after completing the public consultation process.

### **Corporate Communications Department**

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9214005 Fax # +92 51 9206515 Cell: \_+92 3028552254

Email: shakil.chaudhry@secp.gov.pk

[www.secp.gov.pk](http://www.secp.gov.pk)

September 9, 2013

## سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان نے مالیاتی شعبے میں اصلاحات کے لئے انتہائی اقدامات تجویز کر دیئے۔

اتیاز حیدر، کمشنر پشاور ڈیپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ ایس ای سی پی نے مالیاتی شعبے میں بہتر نتائج کے حصول کے لئے اصلاحات لانے کے اقدامات کی تجویز دی ہے اور نان بینکنگ فننس سیکٹر کو فروغ دینے کے لئے ایک متبادل مالیاتی نظام کو اپنانے کی سفارش بھی کی ہے۔ جو پخت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف اثاثوں کی درجہ بندی فراہم کرتا ہے۔ ان سفارشات کی روشنی میں ٹیکسیشن کا نظام، طویل مدتی بچتوں کی حوصلہ افزائی اور ان بچتوں کو خصوصی معاشی سیکٹرز میں لگانے کے لئے تجویز دی گئی ہے۔ یہ سفارشات عملدرآمد کے لئے زیر غور ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ مارکیٹ کے پیشہ ور افراد، صنعتکاروں اور مالیاتی اداروں کی ایک بڑی تعداد نے نان بینکنگ فننس سیکٹر کے متعلق رپورٹ پر اپنی تجاویز فراہم کیں۔ جنکی روشنی میں ایس ای سی پی نے نان بینکنگ فننس سیکٹر کے لئے موجودہ ریگولیٹری نظام کو تبدیل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ مستقبل کے حوالے سے اس سلسلہ میں لائحہ عمل کی دو حصوں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ پہلے حصے پر عمل درآمد کے لئے طویل مدت کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے لئے مختلف طبقات (Stakeholders) جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، منسٹری آف فننس اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو وغیرہ کی رضامندی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قوانین میں ترامیم بھی درکار ہیں۔ اس لئے رپورٹ میں مستقبل کے حوالے سے پیش کی گئی ان تجاویز پر عملدرآمد مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ جبکہ کم مدتی یعنی فوری عملدرآمد والی سفارشات کو ایس ای سی پی نے خود جتنی شکل دی ہے اور اس پر عملدرآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ضروری ترامیم شدہ فریم ورک کو عوامی مشاورت سے مکمل کرنے کے بعد اس سال کے دوران میں لاگو کر دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ سٹیک ہولڈرز کی آراء کے حصول کے لئے مارچ 2013 میں تیار کی گئی تھی۔

### Corporate Communications Department

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9214005 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 3028552254

Email: shakil.chaudhry@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk